



SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED

GAS HOUSE, 21 KASHMIR ROAD, P.O. BOX 56, LAHORE (PAKISTAN)

CA/PSX/1869

Thru: PUCARS/Courier

July 24, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited (PSX),
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI.

Executive Director/HOD,
Offsite-II Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
ISLAMABAD.

PUBLICATION OF POSTAL BALLOT NOTICE AND PROVISION OF ELECTRONIC VOTING

Dear Sir,

We refer to the notice of Annual General Meeting of Sui Northern Gas Pipelines Limited ("the Company") posted on July 11, 2023.

Please find attached herewith a copy of Ballot paper as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, ("the Regulations") published in nationwide following newspapers for information of the shareholders:


- | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|
| 1. | The Jahan Pakistan | (In Urdu Version on July 23, 2023) |
| 2. | The News | (In English Version on July 24, 2023) |

The ballot paper will also be available on the website of the Company at www.sngpl.com.pk for voting through postal ballot.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Regulations, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law. Instructions with regards to e-voting, as prescribed under the Regulations will be shared with the members by the CDC Share Registrar Services Limited on their registered email address.

You may please inform TRE certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,
SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED


(IMTIAZ MEHMOOD) -
Company Secretary
Ph: 042-99201338
Fax: 042-99201369

Telephones Exch: { +92-42)9082000
+92-42)9082006

Telephones: { 042-99201338
042-99201044

Fax: 042-99201369

www.sngpl.com.pk



ISO 14001
REGISTERED FIRM



Gas House, 21-Kashmir Road, Lahore.
www.sngpl.com.pk

سنگی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ
Sui Northern Gas Pipelines Limited

بذریعہ ڈاک وونگ کے لیے بیلٹ پیپر

بذریعہ ڈاک وونگ کے لیے بیلٹ پیپر بروز یکم اگست 2023 کو صبح 10:30 بجے پرل کا منتقل ہونا، لاہور میں مستعد کیا جائیگا۔
بالفاظ دیگر یہ کہنے کے لیے بیلٹ پیپر کی جھڑک برکن کے نامزد کردہ ای میل ایڈریس agm@sngpl.com.pk پر بھیجا جا سکتا ہے۔

شمارہ طرز اجراء تحت شجر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ	
ملکی حصص کی تعداد اور نوٹ نمبر	
کمپیوٹرائزڈ وی سی سی کارڈ (کانفی بلنگ کی جانے گی)	
ادنیٰ معلومات اور شکایت رجحانات (کارپوریٹ ڈائی کتا پر مشتمل حدود قانونی حکومت کے احکامات کی صورت میں)	

میں / ہم بذریعہ مذکور ذیل خصوصی امور کی قرارداد کے سلسلے میں بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹیک (✓) کا نشان لگا کر میری ارجمندی اور رضامندی یا اختلاف ظاہر کرتا ہوں / کرتے ہیں:

سیکرٹری	قرارداد کی نوعیت اور وضاحت	معمولی شجر کی تعداد جس کیلئے ووٹ کا اسٹ کے ساتھ ہے
1	مندرجہ ذیل قراردادوں کی ترمیم یا ختم کرنے کے لئے OR قرارداد اور بیلٹ کے ذریعے ضمانت آؤٹ شدہ مالیاتی کمشنروں کی طرف سے تقسیم فرمودہ خوش کرنامہ اور مناسب سمجھا گیا منظوری دینا۔ قرارداد کے ضمن میں انکشاف کرنا آؤٹ شدہ مالیاتی کمشنروں کی طرف سے تقسیم OR قرارداد اور بیلٹ کے ذریعے جیسا کہ بیوروٹ ایکٹیویشن کمیٹی ایک پاکستان نے اپریل 2023ء SRO (1) / 389 تاریخ 21 مئی 2023ء کے ذریعے منظور کیا ہے کے مطابق قراردادوں کی منظوری ملانی چاہتی ہے۔ مزید قرارداد ہے کہ کمیٹی تحریری طور پر قرارداد کو نافذ کرنے کے لیے تمام ضرورتی کارروائیاں مکمل کر دے گا اور جو بھی ضروری اداراتی امور یا تجویزیں کسی نہ کسی وقت نکال جائیں گی۔	1

_____ مقام _____ تاریخ _____

شجر ہولڈر (د کے دستخط)

نوٹس:

- 1- بالفاظ دیگر اور شدہ اصل بیلٹ پیپر کو مذکور ڈاک کے ذریعے گیس ہاؤس 21 کشمیر روڈ لاہور ای میل ایڈریس agm@sngpl.com.pk پر جھڑک برکن کو بھیجا جائے۔
- 2- بذریعہ ڈاک وونگ کی شرائط کارڈ کی کانفی بلنگ نظام فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- بیلٹ پیپر ایک دن پہلے یعنی 31 جولائی 2023ء کو اس کے لیے کاروباری ادوت بینک کے جھڑک برکن تک پہنچانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد وصول ہونے والے کسی بھی پر عمل بیلٹ کو کوئی خاص اثر نہیں سمجھا جائے گا۔
- 4- بیلٹ پیپر پر دستخط کیے جانے والے شخص کا کارپوریٹ حکمت سے متعلق ہونا چاہیے۔
- 5- کانفی بلنگ، تحریر شدہ اطلاع، شجرہ، پختہ ہوئے شجرہ اضافی تحریر واطاعت کی ضرورت رکھتا ہے۔
- 6- بیلٹ پیپر کا نوٹیفکیشن کی ویب سائٹ www.sngpl.com.pk پر موجود ہے۔ میسران ان ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل انفرمیشن یا متبادل کر سکتے ہیں۔

PID(L)287

SAVE GAS - SAVE CASH

Heath

MEDIA AFFAIRS DEPARTMENT



سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ
Sui Northern Gas Pipelines Limited

Gas House, 21-Kashmir
Road, Lahore.
www.sngpl.com.pk

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL

Ballot paper for voting through post for poll to be held on (August 01, 2023 at 10:30 a.m. and Pearl Continental Hotel, Lahore)
Designated email address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent: agm@sngpl.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Sr.No	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We assent to the Resolutions (AGAINST)
1	<p>To consider and, if deemed fit, to pass with or without modification the following resolutions for circulation/ dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and web-link:</p> <p>RESOLVED THAT circulation/ dissemination of Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and web-link as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023, be and is hereby approved.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT Company Secretary be and is hereby singly authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution.</p>			

Signature of shareholder(s)

Place:

Date:

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to chairperson (Gas House, 21-Kashmir Road, Lahore or agm@sngpl.com.pk).
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairperson of the meeting on or before one (01) day before the day of poll i.e. Monday, July 31, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.sngpl.com.pk. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

PID(L)287

SAVE GAS - SAVE CASH

Handwritten signature

MEDIA AFFAIRS DEPARTMENT



سوئی ناردرن گیس
Sui Northern Gas

میڈیا افیئرز ڈیپارٹمنٹ | Media Affairs Department